

سبق - 22، دیگر اذکار و دعائیں: سید الاستغفار

1- عربی بول چال: تسلسل کے لیے پچھلے سبق کا جلد دیکھیے۔

ہَاتِ .	ہَاتِ .	مُویَا (المَاءِ)	جیب (جی ب)
ہَاثُوا .	ہَاتِ .	پانی	لاؤ
لاؤ (تم سب)	لاؤ		

2- گرامر: TPI کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے گرامر دیکھیے (سوچیے، دیکھیے، بولیے، بتائیے۔۔۔)

قَالَ 1719 (1i) کے نیچے دیے گئے ۲۱ اہم صیغوں کی پریکٹس کیجیے۔ وک بکٹ میں ان کا تفصیلی ٹیبل دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہم تین حروف والے فعل کے کچھ خاص حالتوں (special cases) والے افعال سیکھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں آپ نے مادہ کے دو یکساں الفاظ والے افعال (1g) سیکھے مثلاً ضَلَّ اور ظَنَّ (سبق نمبر 20) اور وہ افعال بھی جن کے مادہ کا پہلا حرف، حرف علت weak letter ہو یعنی واو، یاء، الف میں سے کوئی ایک حرف ہو مثلاً وَجَدَ اور وَعَدَ (سبق نمبر 21)۔ آج ہم ان افعال کو سیکھیں گے جن کے مادہ کا بیچ کا حرف، حرف علت ہو۔ بس اتنا یاد رکھ لیجئے کہ یہ تین حروف اتنے کمزور ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی فعل میں آجائے تو پورے صیغوں میں نہیں رہ پاتا، بہت جلد تھکتا جاتا ہے۔ اس لیے یا تو غائب ہو جاتا ہے یا پھر کسی دوسرے حرف علت کو بھیج دیتا ہے! اتنی بات یاد رہے تو کافی ہے۔ جیسے قَالَ (دوسرا حرف الف ہے)، يَقُولُ (یہاں واو ہے)، قُلْ (یہاں غائب)، قِيلَ (یہاں یاء ہے)۔

یہ بھی یاد رہے کہ یہ افعال چھ ابواب کے تحت بلکہ عام طور پر چار اہم ابواب (فَتَحَ 1a، نَصَرَ 1b، ضَرَبَ 1c، سَمِعَ 1d) کے تحت یعنی انہیں نمونوں پر آتے ہیں۔ اب تک آپ کو یہ چاروں ابواب کے صیغے اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے پریشانی کی بات ہی نہیں۔ (قَالَ: اس نے کہا، وہ بولا)

قَالَ، قَالُوا، قُلْتُ، قُلْتُمْ، قُلْنَا، يَقُولُ، يَقُولُونَ، تَقُولُ، تَقُولُونَ، أَقُولُ، نَقُولُ

قُلْ، قُولُوا، لَا تَقُلْ، لَا تَقُولُوا، قَائِلٌ، مَقُولٌ، قَوْلٌ، (قَالَتْ، تَقُولُ)

اہم نوٹ: اس کتاب کے آخر میں صفحہ نمبر A-9 کا ٹیبل ایک نظر دیکھ لیجیے۔

3۔ قرآن و حدیث سے: 3SP کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کیجئے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ				
اللہ	تو	میرا رب ہے،	نہیں (کوئی) معبود	سوائے تیرے۔
خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ				
تو نے پیدا کیا مجھے	اور میں بندہ ہوں تیرا	اور میں	تیرے عہد پر	
وَوَعَدَكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ				
اور تیرے وعدے پر (قائم ہوں)	بتنی مجھ میں طاقت ہے۔	میں پناہ میں آتا ہوں	تیری	
مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَأَبُوءُ لَكَ				
(ہر) برائی سے	جو	میں نے کی،	میں اقرار کرتا ہوں	تیرے سامنے
بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي				
تیری نعمتوں کا	(جو) مجھ پر ہیں،	اور میں اقرار کرتا ہوں	اپنے گناہوں کا	
فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ				
لہذا معاف کر دے مجھے	پس بے شک	نہیں معاف کر سکتا	گناہوں کو	سوائے تیرے۔

اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد پر اور وعدے پر (قائم ہوں) بتنی مجھ میں طاقت ہے۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں (ہر) برائی سے جو میں نے کی، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ لہذا تو مجھے معاف کر دے پس بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔

ہوم ورک: سات آسان ہوم ورکس کو یاد رکھیے، ورک شیٹ کو پریکٹس، پیغام پر غور کرنے اور عمل کرنے کی مسلسل کوشش کیجئے۔

سبق -22 ، دیگر اذکار و دعائیں: سید الاستغفار

1. عربی بول چال: ترجمہ کیجیے۔

جیب (جی ب)	مویا (الماء)	ہات .	ہاتوا .

2. گرامر: قَالَ¹⁷¹⁹ کے 21 صیغے لکھیے۔

3. قرآن وحدیث سے: ترجمہ کیجیے۔

**** سید الاستغفار ****			
اللَّهُمَّ	أَنْتَ	رَبِّي	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
خَلَقْتَنِي	وَأَنَا عَبْدُكَ	وَأَنَا	عَلَىٰ عَهْدِكَ
وَوَعَدَكَ	مَا اسْتَطَعْتُ	أَعُوذُ	بِكَ
مِنْ شَرِّ	مَا	صَنَعْتُ	
أَبْوَاءُ	لَكَ	بِنِعْمَتِكَ	عَلَيَّ وَأَبْوَاءُ
بَدَنِّي			
فَاغْفِرْ لِي	فِيَّاهُ	لَا يَغْفِرُ	الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

سبق نمبر - 22: آج جو سبق آپ نے سیکھا ہے اس میں سے ان الفاظ کو لکھیے یا نشان دہی کیجیے جن کو آپ پہلے سے جانتے ہوں یا پچھلے اسباق میں آپ نے سیکھا ہو یا جن کے مادہ کے الفاظ اردو یا مانوس عربی الفاظ میں بھی وہی ہوں۔

Earlier occurrence / Mother-tongue or false link / Grammatical form/ ...	Root Letters	Meanings	Arabic	Earlier occurrence / Mother-tongue or false link / Grammatical form/ ...	Root Letters	Meanings	Arabic
استطاعت	ط و ع	مجھ میں طاقت ہوئی، میں کرسکا	اسْتَطَعْتُ	جَاءَ ب: آیا ساتھ، لایا	ج ي ء	لاؤ	جِيءَ ب
صَنَاعَةٌ صُنِعَ فِي... made in	ص ن ع	میں نے کی	صَنَعْتُ		-	لاؤ	هَاتُوا
	ب و ا	میں اقرار کرتا ہوں	أَبُو	خلقت: تونے پیدا کیا نی: مجھے	خ ل ق	تونے پیدا کیا مجھے	خَلَقْتَنِي
sg. ذُنْب ; pl. ذُنُوب	ذ ن ب	اپنے گناہ	ذُنْبِي		ع ه د	تیرا عہد	عَهْدِكَ
sg. ذُنْب ; pl. ذُنُوب	ذ ن ب	گناہوں	ذُنُوب		و ع د	تیرا وعدہ	وَعْدِكَ

